



## کراچی کنگز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو ہرا کر سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی

کراچی، 14 مارچ 2020ء :

کراچی کنگز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے۔ ملتان سلطانز کے بعد کراچی کنگز کی ٹیم اب تک ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرنے والی دوسری ٹیم ہے۔

میچ میں ناکامی کے باعث اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو گئی ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم اس سے قبل 2 مرتبہ ٹائٹل جیت چکی ہے۔

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے لو اسکورنگ میچ میں کراچی کنگز نے 137 رنز کا ہدف 4 گیندیں قبل 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ شرجیل خان نے 14 گیندوں پر 37 رنز بنا کر مین آف دی میچ کا ایوارڈ جیتا۔

تفصیلات کے مطابق کراچی کنگز کے کپتان عماد وسیم نے مسلسل دوسرے میچ میں ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ٹاپ آرڈر بلے بازوں حسین طلعت اور فل سالٹ کے علاوہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کسی اور کھلاڑی نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہ کیا اور وہ وقفے وقفے سے اوٹ ہو کر پویلین واپس لوٹتے رہے۔

حسین طلعت نے 4 چوکوں کی مدد سے 37 جبکہ فل سالٹ نے 3 چوکوں اور 1 چھکے کی بدولت 25 رنز بنائے۔ دونوں کھلاڑیوں کے پویلین واپس لوٹتے ہی اسلام آباد یونائیٹڈ کا اسکور بورڈ پر بڑا مجموعہ سجانے کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے مقررہ بیس اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 136 رنز بنائے۔

اوپنر رضوان حسین 17، کپتان شاداب خان 12، کولن انگرام 14 اور آصف علی 2 رنز بنا کر اوٹ ہوئے۔ ظفر گوہر 13 اور فہیم اشرف 12 رنز بنا کر کریز پر موجود تھے کہ ایک اننگز کے 20 اوورز اکا کوٹہ مکمل ہو گیا۔

کراچی کنگز کے افتخار احمد، ارشد اقبال، عمید آصف، عماد وسیم اور کرس جارڈن نے

ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کے اوپنر شرجیل خان نے پہلے اوور میں فاسٹ باؤلر موسیٰ خان کو 20 رنز جڑ کر اننگز کا جارحانہ آغاز کیا۔ انہوں نے بابر اعظم کے ہمراہ 30 گیندوں پر 60 رنز کی ابتدائی شراکت قائم کی۔ شرجیل خان 14 گیندوں پر 4 چھکوں اور 3 چوکوں کی بدولت 37 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ بابر اعظم نے 18 رنز بنائے۔

60 کے مجموعی اسکور پر کراچی کنگز کے دونوں اوپنر پویلین واپس لوٹے تو کپتان عماد وسیم اور کیمرون ڈیلپورٹ نے کریز سنبھالی۔ دونوں کھلاڑیوں نے نسبتاً سست روی سے بیٹنگ کی جس کے نتیجے میں کراچی کنگز کے دیگر بلے باز دباؤ کا شکار ہوئے۔ 50 گیندوں پر 30 رنز کی شراکت میں کیمرون ڈیلپورٹ کے 11 رنز شامل تھے۔ وہ 24 گیندوں کو سامنا کر کے پویلین واپس لوٹے تو نئے آنے والے بلے باز افتخار بھی زیادہ دیر وکٹ پر نہ ٹھہر سکے۔ وہ 1 رنز بنا کر شاداب خان کی گیند پر چلتے بنے۔

کراچی کنگز کی پانچویں وکٹ اس وقت گری جب کپتان عماد وسیم 32 گیندوں پر 26 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ 16 رنز پر 3 وکٹیں گنوانے کے بعد کراچی کنگز کے شیڈوک والٹن نے جارحانہ انداز اپنانے کی کوشش کی مگر وہ بھی 6 گیندوں پر 1 چھکا اور 1 چوکے کی مدد سے 11 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔

118 رنز کے مجموعے پر 6 وکٹیں گنوانے والی کراچی کنگز کو جیت کے لیے آخری 14 گیندوں پر 19 رنز درکار تھے کہ عمید آصف نے ایک چھکا اور ایک چوکا لگا کر ٹیم کو فتح دلادی۔ کراچی کنگز نے مطلوبہ ہدف 4 گیندیں قبل حاصل کر لیا۔ عمید آصف 13 اور کرس جارڈن 6 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔

اسلام آباد یونائیٹڈ کے شاداب خان نے 2 جبکہ ظفر گوہر، عاکف جاوید، محمد موسیٰ اور رومان رئیس نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

شرجیل خان کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔

ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے آخری 2 گروپ میچز 15 مارچ بروز اتوار کو کھیلے جائیں گے۔ لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کی ٹیمیں دوپہر 2 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور جبکہ کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیموں کے مابین میچ شام 7 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content  
Media and Communications  
E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)  
M: +92 (0) 345 474 3486  
W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

Partners



[www.psl-t20.com](http://www.psl-t20.com) ●  
@thePSLT20 ●  
@thePSL ●  
PakistanSuperLeague ●  
@thePSL ●

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium,  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4